

سوال

سوال: میں کچھ دن بعد آپریشن کیلئے ہسپتال میں داخل ہونگا، تو کیا میں آپریشن سے پہلے خدشات کے پیش نظر حج وغیرہ کی وصیت کر سکتا ہوں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

ہم اللہ تعالیٰ سے آپکے لئے شفا یابی، اور صحت مند زندگی کی دعا کرتے ہیں۔

وصیت کے بارے میں کچھ تفصیل ہے کہ کچھ وصیتیں واجب ہوتی ہیں، اور کچھ مستحب۔

چنانچہ اگر آپ پر لوگوں کے واجبات، اور حقوق ہیں، اور ایسی کوئی دستاویز موجود نہیں ہے جس سے ان کے حقوق ثابت ہوتے ہوں، تو آپ پر ان حقوق اور واجبات کی وصیت کرنا واجب ہے، تا کہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی ہو، مثلاً: آپ نے کسی سے قرضہ لیا، اور اس قرضہ کے بارے میں کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے قرضہ کے بارے میں کوئی تحریر لکھی، تو ایسی صورت میں آپ وصیت لازمی کریں۔

جبکہ صاحب جائیداد کی طرف سے کچھ مال کے بارے میں وصیت کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کہ اس کے ورثاء کو اس مال کی ضرورت نہ ہو، تو ایسی صورت حال میں ایک تہائی یا اس سے کم مقدار میں وصیت کر سکتا ہے، جسے رفاہی کاموں، مساجد کی تعمیر، حج بدل، اور فقراء وغیرہ کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

دائمى فتوى كميٲى كے علمائے كرام كا كہنا ہے كہ:

"جو شخص اپنے مال ميں وصيت كرنے كا ارادہ ركھتا ہے تو وہ اپنى وصيت موت آنے سے پہلے لكھوادے، اور اس كو معتبر بنانے پر توجہ دے اور اس پر گواہ بنائے، اور اس وصيت كى دو قسميں ہيں:

پہلى قسم: واجب وصيت، مثال كے طور پر يہ وصيت كہ دوسروں كا اس پر اور اس كا دوسروں پر كيا حق باقى ہے؟ جيسے قرضوں كى ادائىگى يا وصولى، خريد و فروخت، كى رقوم اس كے پاس ركھى ہوئى امانتیں، يا لوگوں كے ذمہ اپنے حقوق كى وضاحت وغيرہ، تو اس حالت ميں وصيت كرنا واجب ہے؛ تا كہ اس كے مال محفوظ رہے اور ذمہ دارى سے عہدہ برآ ہو جائے؛ كيونكہ ہو سكتا ہے اس كى موت كے بعد اس كے ورثاء اور ان حقوق كے مالكان كے

مابین تنازع کھڑا ہو جائے، اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"جس کسی مسلمان کو کسی چیز کی وصیت کرنی ہو تو اس کے لئے وصیت لکھے بغیر دو راتیں گزارنا بھی جائز نہیں ہے" بخاری، مسلم نے اسے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ بخاری (3/186) کے ہیں۔

دوسری قسم: مستحب وصیت، اور یہ حقیقت میں صرف عطیہ ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کا اپنی موت کے بعد اپنے ایک تہائی یا اس سے کم کا اپنے غیر وارث رشتہ دار کیلئے یا کسی غیر رشتہ دار کے لیے وصیت کرنا یا نیکی کے کاموں میں جیسے صدقہ برائے فقراء و مساکین یا رفاہی کاموں میں مثلاً مساجد کی تعمیر اور دیگر مفاد عامہ کے لیے وصیت کرنا؛ اس کی دلیل خالد بن عبید سلمیٰ نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"بے شک اللہ عزوجل نے وفات کے وقت تمہارے مال کا تیسرا حصہ تمہارے لئے مباح کیا ہے تاکہ تمہارے اعمال صالحہ میں اضافہ ہو"

ہیثمی "مجمع الزوائد" میں کہتے ہیں: اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں ابو الدرداء سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

اس کی ایک دلیل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے جو کہ صحیحین میں موجود ہے کہ:

"نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں میری عیادت کی۔ اور انہیں مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مکہ میں وفات پانا ناگوار گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(عفراء کے بیٹے پر اللہ رحم فرمائے)

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! "کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کردوں؟"

آپ نے فرمایا: (نہیں)

میں نے عرض کیا کہ: "کیا دو تہائی مال خیرات کردوں؟"

آپ نے فرمایا: (نہیں)

میں نے کہا: "ایک تہائی مال خیرات کردوں؟"

آپ نے فرمایا: (ایک تہائی مال خیرات کردو، اور ایک تہائی بھی بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، تو یہ انہیں محتاج چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ کہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہ پھریں۔۔۔) مذکورہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں:

"میں نے کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میری صرف ایک بیٹی ہے"

میں نے کہا: "کیا میں اپنے آدھے مال کی وصیت کردوں؟"

آپ نے فرمایا: (آدھا مال بہت زیادہ ہے)

میں نے کہا: "تہائی مال کی وصیت کردوں؟"

آپ نے فرمایا: (تہائی بھی بہت زیادہ ہے یا بہت بڑا حصہ ہے)"

راوی کہتے ہیں کہ پھر: "انہوں نے ایک تہائی مال کی وصیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز ٹھہرایا" انتہی

شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ عبد العزیز آل شیخ ، شیخ عبد اللہ بن غدیان ، شیخ صالح الفوزان ، شیخ بکر أبو زید -
" فتاوی اللجنة الدائمة " (16 / 263 - 266)

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہونے سے پہلے حج نہ کرسکا تو اس کے مال سے حج کیا جائے گا، چاہے اس نے حج کرنے کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔

تاہم جس شخص نے اپنی زندگی میں فریضہ حج ادا کر لیا تھا تو اس کے مال سے اسی وقت نفل حج کیا جائے گا، جب وہ وصیت کر کے جائے بشرطیکہ حج کی ادائیگی کا خرچہ مکمل ترکہ کے ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو۔

دائمى فتوى كميٹی كے علمائے كرام كہتے ہیں:

" وجوب حج كيلئے تمام شرائط پوری ہونے كے بعد كوئى مسلمان فریضہ حج ادا كیے بغیر فوت ہو جائے ؛ تو اس كى طرف سے اُسى كے تركہ میں سے حج كرنا واجب ہے، چاہے اس نے وصیت كى ہو یا نہ كى ہو " انتہی
شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ عبد الرزاق عقیفی، شیخ عبد اللہ بن غدیان ، شیخ عبد اللہ منیع -
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11 / 100)

اس لئے آپ اپنی وصیت لكھ كر ركھیں، چاہے آپ ہسپتال میں داخل ہو ں یا نہ ہوں، كیونكہ موت كا كوئى پتہ نہیں ہے، یہ اچانك آتى ہے۔

واللہ اعلم.